

COMPUTER SCIENCE	PAPER CODE - 7835	کمپیوٹر سائنس
GROUP : FIRST	10 <sup>th</sup> CLASS 1 <sup>st</sup> Annual 2024	گروپ : پہلا
TIME : 15 MIN	حصہ مخصوصی	وقت : 15 منٹ
TOTAL MARKS : 10	OBJECTIVE PART	کل نمبر : 10

ہدایات: ہر جزو کے چار گزینہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جو بھی کالپی پر ہر جزو کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق مختلف دائروں کو مارک کر یا میں سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیاد دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پورے کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہو گا۔

**NOTE:** Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that Bubble in front of that question with marker or pen ink. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero marks in that question.

سوال نمبر-1 DGK-1-24

-1 اگر ایک ارے کا سائز 100 ہے تو انڈیکس کی ریخ \_\_\_\_\_ ہو گی؟

If the size of an array is 100, the range of indexes will be -----?

2 - 102 (D) 1 - 100 (C) 0 - 100 (B) 0 - 99 (A)

- شرکر ہمیشہ ہدایات کے ایک سیٹ کو بار بار دہرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

----- structure allows repetition of a set of instructions.

Data (D) Control (C) Conditional (B) Loop (A)

The values passed to a function are called ----- کشش کو پاس کی گئی چیزیں ----- کہلاتی ہیں۔

arguments (D) arrays (C) return types (B) Bodies (A)

The advantages of using functions are ----- کشش استعمال کرنے کے فوائد ----- ہیں۔

reusability (B) readability (A)

All (D) ڈی بیک میں آسانی (C)

ایک سافت ویرہ ہے جو پروگرام کی فائلز کو ایسے کوڈ میں تبدیل کر دیتا ہے جسے میشن بھی سکے اور جلا سکے۔

----- is a software that is responsible for the conversion of program files to machine understandable and executable code.

Debugger (D) IDE (C) Editor (B) Compiler (A)

ایسے الفاظ کی فہرست جو بہلے سے طے شدہ اور پروگرام اپنے تنقیرات کے نام کے لیے استعمال نہیں کرتا اسے ----- کے نام سے جانا جاتا ہے۔

A list of words that are predefined and must not be used by the programmer to name his own variables are known as -----

آٹو ورڈز (A) reserved words (B)

محروم الفاظ (C) predefined words (D)

scanf( ) is a ----- in C programming language. ( ) پروگرامگ لینکوگ میں ----- ہے۔

None of them (D) Function (C) نکش (B) لاہری (A)

درج ذیل کوڈ کی آنکھ پڑ کیا ہو گی؟

Find out the output of the following code.

```
int a = 4;
```

```
float b = 2.2;
```

```
a = a * b;
```

8.2 (D) 8.0 (C) 8 (B) 8.8 (A)

ٹیکشیں بتائیں کہ پروگرام کی ٹیکشیں کس ترتیب سے ایکنکوٹ ہوں گی؟

----- statements describe the sequence in which statements of the program should be executed.

Loop (A) مشرط (B) Conditional (C) کنٹرول (D) All (تمام)

Find out the error from the code

```
if (a == 10)
```

&& (D) ( ) (C) = (B) == (A)

درج ذیل کوڈ میں سے ایرٹلش کہیں۔

**COMPUTER SCIENCE**  
**GROUP : FIRST**  
**TIME 1:45 HOURS**  
**TOTAL MARKS : 40**

وہم کلاس 1<sup>st</sup> Annual 2024  
SUBJECTIVE PART  
حصہ انتسابی  
Part - I  
حصہ اول DGK-1-24

بیوٹر سائنس

گروپ : پہلا

وقت: 1 گھنٹے 45 منٹ

کل نمبر: 40



سوال نمبر-2 کوئی سے چار اجزاء کے فخر جوابات تحریر کریں۔ 2x4=8

Q. No.2 Write Short answers to any four of the following

فخر کی انتسابی میں سے کیا مراد ہے؟ (i)

ستگ لائن کمینشن کیا ہیں؟ (ii)

فخر کی تحریف کیجئے۔ (iii)

درج ذیل کوڈ کی آکٹ پڑ کیجئے۔ (iv)

آپریٹر کا درجہ محل بنائیے۔ (v)

فارمیٹ سسپیسیفار کیا ہوتے ہیں؟ (vi)

What is meant by variable initialization?

What are single line comments?

Define variable.

Write down output of the following code.

```
int a = 3*5 / (2+3) + 7 % 2 ;
printf ("% d", a);
```

Draw the truth table of OR operator.

What are format specifiers?

Q. No.3 Write Short answers to any four of the following 2x4=8

Define selection statement.

What is sequential statement?

What is if statement?

What is the output of the following code.

{

```
int a = 7, b = 10 ;
if ( a > 20 && b < 20 )
printf (" Pakistan ");
else
printf (" Punjab " );
```

}

اسے کی تحریف کیجئے۔ (v)

اپ کی ایک اسے ذیکر کیجئے تو 105 اعداد کو شور کرے۔ (vi)

Define array.

Declare an array of int type that can store 105 elements.

Q. No.4 Write Short answers to any four of the following 2x4=8

Identify the errors in the following code.

```
for ( int i = 1 , i < 7 ; i -- ) ;
```

Write down output of following code.

```
for ( int i = 1 ; i <= 10 ; i += 2 )
printf ("% d\n" , i);
```

Write any two advantages of function.

Write general structure of function definition.

Why we call a function?

What do you know about return keyword?

سلیکشن سٹیٹ کی تحریف کیجئے۔ (i)

یک بٹھل سٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ (ii)

if سٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ (iii)

درج ذیل کوڈ کی آکٹ پڑ کیا جائی؟ (iv)

درج ذیل کوڈ کی تحریف کیجئے۔ (v)

اپ کی اسے ذیکر کیجئے تو 105 اعداد کو شور کرے۔ (vi)

درج ذیل کوڈ کی آکٹ پڑ کیا جائے؟ (i)

درج ذیل کوڈ کی آکٹ پڑ کیا جائے؟ (ii)

نکشن کے کوئی سے دو فاؤن کیجئے؟ (iii)

نکشن ذیقی نیشن کا عام ذخایقہ تحریر کیجئے۔ (iv)

ہم نکشن کو کال کیوں کرتے ہیں؟ (v)

ریٹن کی وڑ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ (vi)

Part - II

نوٹ: اس حصہ میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجئے۔ 2x8=16

Note: Attempt any two questions from this part

1+1+6

Define variable and constant. Enlist rules for naming variables.

8

What is Relational operator? Describe in detail uses of Relational operators in C language.

8

Write a program in C language to print HELLO WORLD 10 times using for loop.

سوال نمبر-5

سوال نمبر-6

سوال نمبر-7

60 (Sub) 1<sup>st</sup> Annual 2024

COMPUTER SCIENCE	PAPER CODE - 7836	کمپیوٹر سائنس		
GROUP : SECOND	10 <sup>th</sup> CLASS 1 <sup>st</sup> Annual 2024	گروپ : دوسرا		
TIME : 15 MINUTES	حصہ مارکسی	وقت : 15 منٹ		
TOTAL MARKS : 10	OBJECTIVE PART	کل نمبر : 10		
ہدایات: ہر جزو کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیے گئے ہیں۔ جواب کا لپی پر ہر جزو کے سامنے دیئے گئے دائرہ میں سے درست جواب کے مطابق مختلف دائروں کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کٹ کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب فلٹ تصور ہو گا۔				
<b>NOTE:</b> Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that Bubble in front of that question with marker or pen ink. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero marks in that question.				
سوال نمبر - 1 DGK - 2-24				
<p>1. ----- سے ارے میں قیمتیں لکھنا اور پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔</p> <p>----- make it easier to read and write values in an array.</p>				
Functions (D)	Expressions (C)	Conditions (B)	Loops (A)	2. ایک ہی شیئٹ میں ارے کو اینیلاگ کرنے کے لیے اسے ڈیلیکٹریشن کے ----- اینیلاگ بھے۔
To initialize the array in a single statement, initialize it ----- declaration.			3. وہ شیئٹ جو C میڈیا لائبریری میں دستیاب نہیں ہوتے انہیں ----- کہتے ہیں۔	
Both A & B (D)	Before (C)	After (B)	At the time of (A)	4. The functions which are not available in C standard library are called -----.
Repetitive (D)	Recursive (C)	Built-in (B)	User-defined (A)	5. ایک خییر کو اینیلاگ کرنے کے لیے ہم ----- آپریٹر استعمال کرتے ہیں۔
In this function int cd ( ) { return 'a' } "int" is -----.			6. ----- can be thought of as a container to store constants.	6. کا نشیش حفظ کرنے کے لیے مرتبان سمجھا جاسکتا ہے۔
Arguments (D)	Return type (B)	Body (C)	Body (A)	7. Collection (D)
For initializing a variable, we use ----- operator.			7. ? (D) @ (C) = (B) → (A)	7. مدرج ذیل میں سے کون سا کریکٹ C لینکرینگ میں درست ہے ؟
Find out the output of the following code.			8. درج ذیل کوڈ کی آٹھ پٹ کیا ہو گی ؟	8. int a = 4 * 3 / (5+1) + 7 % 4 ;
printf ("%d", a);			9. 3 (D) 9 (C) 7 (B) 5 (A)	9. if شیئٹ میں اگر کٹ لیں فلٹ ہے تو کیا ہتا ہے ؟
In if statement, what happens if condition is false ?			10. (A) پروگرام رک جاتا ہے (B) ایکس آٹ آٹ پاٹ ایر آٹ ہے (C) باقی کوڈ چلے گتا ہے (D) کمپیلر کٹ لیں بدلتے کا مطالبہ کرتا ہے	10. Compiler asks to change condition
Find out the output of the following code.			10. درج ذیل کوڈ کی آٹھ پٹ کیا ہو گی ؟	10. Int y = 18 % 9 ; printf ("%d", y); 9 (D) 3 (C) 2 (B) 0 (A)

**COMPUTER SCIENCE**  
**GROUP : SECOND**  
**TIME 1 : 45 HOURS**  
**TOTAL MARKS : 40**

**10<sup>th</sup> Class 1<sup>st</sup> Annual 2024**  
**SUBJECTIVE PART**  
**حصہ انشائیہ حصہ اول حصہ اول Part - I DGK → 24**



**مپیوٹر سائنس**  
**گروپ : دوسرا**  
**وقت : 1 گھنٹے 45 منٹ**  
**کل نمبر : 40**

سوال نمبر-2 کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ 2x4=8

Define computer program.

(i) کمپیوٹر پروگرام کی تعریف کریں۔

What is variable declaration ?

(ii) متغیر کی دیکھنے والی کیا ہوئی ہے؟

Describe single line comments with example.

(iii) مسئلہ لائن کمینٹس کو مثال کے ساتھ بیان کریں۔

What is the difference between = operator and == operator ?

(iv) آپریٹر اور == آپریٹر میں کیا فرق ہے؟

What is the use of statement terminator ?

(v) سینٹنٹر ٹرینیٹر کا کیا استعمال ہے؟

What will be output of the following code ?

(vi) درج ذیل کوڈ کی آٹھ پٹ کیا ہوئی؟

```
void main ( )
{
    int a = 3 + 5/2 ;
    printf ( "% d " , a ) ;
    getch ( );
}
```

سوال نمبر-3 کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ 2x4=8

Write the output of the following code.

(i) درج ذیل کوڈ کی آٹھ پٹ لکھیں۔

```
int p = 3 , q = 5 ;
if ( p > q )
    printf ( "% d " , p ) ;
else
    printf ( "% d " , q ) ;
```

درج ذیل کوڈ میں غلطیاں حل اش کریں۔ (ii)

Identify errors in the following code.

```
int m = 7
if ( m > = 10 )
printf ( " Fast " ) ;
```

مشروط مسئلہ کیا ہے؟ (iii)

What is conditional logic ?

(iv) کنٹرول سٹیٹمنٹس کی اقسام تحریر کریں۔

Write the types of control statements.

(v) آپ سات بندوں کی قائم محفوظ کرنے کے لیے ایک فوٹ ٹائپ ارس کو کیسے ٹکڑا اور انٹلار کریں گے؟

How would you declare and initialize a float type array to store height of seven persons ?

(vi) ارے انٹلار کا سینٹنیکس تحریر کریں۔

Write down the syntax of array initialization.

سوال نمبر-4 کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ 2x4=8

What is the output of following code ?

(i) درج ذیل کوڈ کی آٹھ پٹ کیا ہے؟

```
int a , p ;
p = 1 ;
for ( a = 1 ; a < 2 ; a ++ )
    p = p * a ;
printf ( " Ans = % d " , p )
```

درج ذیل کوڈ میں ایرز حل اش کریں۔ (ii)

Identify errors in the following code.

```
for ( int a = 1 , a ≤ 10 , a = a + 5 )
    printf ( "% d \ n " , a ) ;
```

بلکہ ان ٹکٹنے کیا ہوتے ہیں؟ (iii)

What are built in functions ?

(iv) ٹکٹنے کو کال کرنے سے کیا مراد ہے؟

What is meant by calling a function ?

(v) ٹکٹنے کو استعمال کرنے کے دو فائدے بیان کریں۔

Describe two advantages of using functions

(vi) ٹکٹنے کی تعریف کریں۔

Define function.

**Part - II حصہ دوم**

نوت : اس حصہ میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ 2x8=16

سوال نمبر-5 C لینگوچ میں استعمال ہونے والی مختلف ٹائٹی ٹائپس کی وضاحت کریں۔ 8

سوال نمبر-6 Explain different data types used in C language. 8

سوال نمبر-7 ( ) اور ( ) scanf ( ) اور ( ) printf ( ) ٹکٹنے کی مثالوں سے وضاحت کریں۔ 8

Explain printf ( ) and scanf ( ) functions with examples.

سوال نمبر-7 C لینگوچ میں ایک پروگرام کیسے جو صرف سے ایک نمبر ان پٹ لے اور اس نمبر کا میکل پرنٹ کرے۔ 8

Write a program in C language that displays the table of a number input by user.